

ARABIC VERB CONJUGATOR

رَجَع
يُرْجِعُ
رَجْعًا

Return

VERBAL NOUN (MASDAR)

رَجْعًا

لوٹنا

Root: ر ج ع

PAST	رَجَعُ وہ لوٹا	PRESENT	يُرْجِعُ وہ لوٹتا ہے / لوٹے گا	MASDAR	رُجُوعًا لوٹنا	ISM FA'IL	رَاجِعٌ لوٹنے والا	ISM MAFOOL	مَرْجُوعٌ إِلَيْهِ جس کی طرف لوٹا جائے
------	-------------------	---------	-----------------------------------	--------	-------------------	-----------	-----------------------	------------	---

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	الترجمہ
هُوَ	رَجَعُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد لوٹا
هُمَا	رَجَعَا	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد لوٹے
هُمْ	رَجَعُوا	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد لوٹے
هِيَ	رَجَعَتْ	وہ (ایک عورت)	وہ ایک عورت لوٹی
هُمَا	رَجَعَتَا	وہ (دو عورتیں)	وہ دو عورتیں لوٹیں
هُنَّ	رَجَعْنَ	وہ (سب عورتیں)	وہ سب عورتیں لوٹیں
أَنْتَ	رَجَعْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد لوٹے
أَنْتُمَا	رَجَعْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں لوٹے
أَنْتُمْ	رَجَعْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مرد لوٹے
أَنْتِ	رَجَعْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت لوٹیں
أَنْتُمَا	رَجَعْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتیں لوٹیں
أَنْتُنَّ	رَجَعْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتیں لوٹیں
أَنَا	رَجَعْتُ	میں	میں لوٹا / لوٹی
نَحْنُ	رَجَعْنَا	ہم	ہم لوٹے

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	الترجمہ
هُوَ	يُرْجِعُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد لوٹتا ہے / لوٹے گا
هُمَا	يُرْجِعَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
هُمْ	يُرْجِعُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد لوٹتے ہیں / لوٹیں گے

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت لوٹتی ہے / لوٹے گی	وہ (ایک عورت)	تَرَجَعُ	هِيَ
وہ دو عورتیں لوٹتی ہیں / لوٹیں گی	وہ (دو عورتیں)	تَرَجِعَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں لوٹتی ہیں / لوٹیں گی	وہ (سب عورتیں)	يَرْجِعْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد لوٹتے ہو / لوٹو گے	تم (ایک مرد)	تَرْجِعُ	أَنْتَ
تم دونوں لوٹتے ہو / لوٹو گے	تم (دو مرد/ عورتیں)	تَرْجِعَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد لوٹتے ہو / لوٹو گے	تم (سب مرد)	تَرْجِعُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت لوٹتی ہو / لوٹو گی	تم (ایک عورت)	تَرْجِعِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں لوٹتی ہو / لوٹو گی	تم (دو عورتیں)	تَرْجِعَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں لوٹتی ہو / لوٹو گی	تم (سب عورتیں)	تَرْجِعْنَ	أَنْتُنَّ
میں لوٹتا/ لوٹتی ہوں / لوٹوں گا/گی	میں	أَرْجِعُ	أَنَا
ہم لوٹتے ہیں / لوٹیں گے	ہم	نَرْجِعُ	نَحْنُ

IMPERATIVE		الأمر والنهي	
POSITIVE	الأمر	NEGATIVE	النهي
الضمیر	الفعل	الضمیر	الفعل
أَنْتَ	أَرْجِعْ	أَنْتَ	لَا تَرْجِعْ
أَنْتُمَا	أَرْجِعَا	أَنْتُمَا	لَا تَرْجِعَا
أَنْتُمْ	أَرْجِعُوا	أَنْتُمْ	لَا تَرْجِعُوا
أَنْتِ	أَرْجِعِي	أَنْتِ	لَا تَرْجِعِي
أَنْتُمَا	أَرْجِعَا	أَنْتُمَا	لَا تَرْجِعَا
أَنْتُنَّ	أَرْجِعْنَ	أَنْتُنَّ	لَا تَرْجِعْنَ
	ترجمہ		ترجمہ
	تم لوٹو (مذکر واحد)		تم مت لوٹو (مذکر واحد)
	تم دونوں لوٹو		تم دونوں مت لوٹو
	تم سب لوٹو (مذکر جمع)		تم سب مت لوٹو (مذکر جمع)
	تم لوٹو (مؤنث واحد)		تم مت لوٹو (مؤنث واحد)
	تم دونوں لوٹو (مؤنث)		تم دونوں مت لوٹو (مؤنث)
	تم سب لوٹو (مؤنث جمع)		تم سب مت لوٹو (مؤنث جمع)

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وه (ایک مرد)	
إِلَيَّ	رَجَعْتُ إِلَيْهِ	وہ میری طرف لوٹا
إِلَيْنَا	رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا	وہ ہماری طرف لوٹا
إِلَيْكَ	رَجَعْتُ إِلَيْكَ	وہ تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹا
إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُمْ إِلَيْكُمْ	وہ تم دونوں کی طرف لوٹا
إِلَيْهَا	رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا	وہ تم سب (مردوں) کی طرف لوٹا
إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹا
إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹا
إِلَيْهِ	رَجَعْتُ إِلَيْهِ	وہ اس (ایک مرد) کی طرف لوٹا
إِلَيْهِمَا	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَا	وہ ان دونوں کی طرف لوٹا
إِلَيْهِمْ	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ	وہ ان سب (مردوں) کی طرف لوٹا
إِلَيْهَا	رَجَعْتُ إِلَيْهَا	وہ اس (ایک عورت) کی طرف لوٹا
إِلَيْهِنَّ	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹا

هُمَا (مذكر)

وه (دو مرد)

إِلَيَّ	رَجَعَا إِلَيْهِ	وہ دو مرد میری طرف لوٹے
إِلَيْنَا	رَجَعَا إِلَيْنَا	وہ دو مرد ہماری طرف لوٹے
إِلَيْكَ	رَجَعَا إِلَيْكَ	وہ دو مرد تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹے
إِلَيْكُمْ	رَجَعَا إِلَيْكُمْ	وہ دو مرد تم دونوں کی طرف لوٹے
إِلَيْكُمْ	رَجَعَا إِلَيْكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کی طرف لوٹے
إِلَيْكَ	رَجَعَا إِلَيْكَ	وہ دو مرد تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹے
إِلَيْكُمْ	رَجَعَا إِلَيْكُمْ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹے
إِلَيْهِ	رَجَعَا إِلَيْهِ	وہ دو مرد اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے
إِلَيْهِمَا	رَجَعَا إِلَيْهِمَا	وہ دو مرد ان دونوں کی طرف لوٹے
إِلَيْهِمْ	رَجَعَا إِلَيْهِمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے
إِلَيْهَا	رَجَعَا إِلَيْهَا	وہ دو مرد اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے
إِلَيْهِنَّ	رَجَعَا إِلَيْهِنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے

ہم	وہ (سب مرد)
رَجَعُوا إِلَيَّ	وہ سب مرد میری طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْنَا	وہ سب مرد ہماری طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْكَ	وہ سب مرد تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْكُمَا	وہ سب مرد تم دونوں کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْكِ	وہ سب مرد تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْهِ	وہ سب مرد اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْهِمَا	وہ سب مرد ان دونوں کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْهَا	وہ سب مرد اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے
رَجَعُوا إِلَيْهِنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے

ہی	وہ (ایک عورت)
رَجَعْتُ إِلَيَّ	وہ ایک عورت میری طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْنَا	وہ ایک عورت ہماری طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْكَ	وہ ایک عورت تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْكُمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْكِ	وہ ایک عورت تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْهِ	وہ ایک عورت اس (ایک مرد) کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْهَا	وہ ایک عورت اس (ایک عورت) کی طرف لوٹی
رَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
رَجَعْتُ إِلَيْ	رَجَعْتُ إِلَيْ	وہ دو عورتیں میری طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْنَا	رَجَعْتُ إِلَيْنَا	وہ دو عورتیں ہماری طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكَ	رَجَعْتُ إِلَيْكَ	وہ دو عورتیں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ دو عورتیں تم دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهَا	رَجَعْتُ إِلَيْهَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكَ	رَجَعْتُ إِلَيْكَ	وہ دو عورتیں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ دو عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهَا	رَجَعْتُ إِلَيْهَا	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	وہ دو عورتیں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں

هن		وہ (سب عورتیں)
رَجَعْنَ إِلَيْ	رَجَعْنَ إِلَيْ	وہ سب عورتیں میری طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْنَا	رَجَعْنَ إِلَيْنَا	وہ سب عورتیں ہماری طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكَ	رَجَعْنَ إِلَيْكَ	وہ سب عورتیں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	وہ سب عورتیں تم دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْهَا	رَجَعْنَ إِلَيْهَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْهِمَا	رَجَعْنَ إِلَيْهِمَا	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكَ	رَجَعْنَ إِلَيْكَ	وہ سب عورتیں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	وہ سب عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْهَا	رَجَعْنَ إِلَيْهَا	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْهِمَا	رَجَعْنَ إِلَيْهِمَا	وہ سب عورتیں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹیں
رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	رَجَعْنَ إِلَيْكُمْ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں

تم (ایک مرد)	أَنْتَ
تم (ایک مرد) میری طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيَّ
تم (ایک مرد) ہماری طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْنَا
تم (ایک مرد) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْهِ
تم (ایک مرد) ان دونوں کی طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ
تم (ایک مرد) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْهَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ

تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم دونوں میری طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيَّ
تم دونوں ہماری طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْنَا
تم دونوں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْهِ
تم دونوں ان دونوں کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْهِمَا
تم دونوں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْهِمْ
تم دونوں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْهَا
تم دونوں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمَا إِلَيْهِنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ
تم سب (مرد) میری طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيَّ
تم سب (مرد) ہماری طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا
تم سب (مرد) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِ
تم سب (مرد) ان دونوں کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
تم سب (مرد) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے	رَجَعْتُمْ إِلَيْهِنَّ

تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم (ایک عورت) میری طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيَّ
تم (ایک عورت) ہماری طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْنَا
تم (ایک عورت) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْهِ
تم (ایک عورت) ان دونوں کی طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْهِمَا
تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْهِمْ
تم (ایک عورت) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْهَا
تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں	رَجَعْتِ إِلَيْهِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
رَجَعْتُ إِلَيْكَ	تم سب (عورتیں) میری طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْنَا	تم سب (عورتیں) ہماری طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِ	تم سب (عورتیں) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهَا	تم سب (عورتیں) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹیں
رَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹیں

میں	آنا
میں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْكَ
میں تم دونوں کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْنَا
میں تم سب (مردوں) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْكُمْ
میں تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْكِ
میں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْكنَّ
میں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْهِ
میں ان دونوں کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا
میں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ
میں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْهَا
میں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹا / لوٹی	رَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ

نحن	ہم
رَجَعْنَا إِلَيْكَ	ہم تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْنَا	ہم تم دونوں کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ	ہم تم سب (مردوں) کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْكِ	ہم تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْكنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْهِ	ہم اس (ایک مرد) کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْهِمَا	ہم ان دونوں کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْهِمْ	ہم ان سب (مردوں) کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْهَا	ہم اس (ایک عورت) کی طرف لوٹے
رَجَعْنَا إِلَيْهِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹے

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو	وه (ایک مرد)
إِلَيَّ	يُرْجِعُ إِلَيَّ / لوٹے گا
إِلَيْنَا	وہ ہماری طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْكَ	وہ تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْكُمَا	وہ تم دونوں کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْكِ	وہ تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْهِ	وہ اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْهِمَا	وہ ان دونوں کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْهِمْ	وہ ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْهَا	وہ اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا
إِلَيْهِنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتا ہے / لوٹے گا

هُمَا (مذكر)	وه (دو مرد)
إِلَيَّ	وہ دو مرد میری طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْنَا	وہ دو مرد ہماری طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكَ	وہ دو مرد تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكِ	وہ دو مرد تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِ	وہ دو مرد اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِمَا	وہ دو مرد ان دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهَا	وہ دو مرد اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے

ہم	وہ (سب مرد)	
إِلَيَّ	يُرْجِعُونَ إِلَيَّ	وہ سب مرد میری طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْنَا	يُرْجِعُونَ إِلَيْنَا	وہ سب مرد ہماری طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكَ	يُرْجِعُونَ إِلَيْكَ	وہ سب مرد تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكُمْ	يُرْجِعُونَ إِلَيْكُمْ	وہ سب مرد تم دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكِ	يُرْجِعُونَ إِلَيْكِ	وہ سب مرد تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْكُنَّ	يُرْجِعُونَ إِلَيْكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِ	يُرْجِعُونَ إِلَيْهِ	وہ سب مرد اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِمَا	يُرْجِعُونَ إِلَيْهِمَا	وہ سب مرد ان دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِمْ	يُرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهَا	يُرْجِعُونَ إِلَيْهَا	وہ سب مرد اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِلَيْهِنَّ	يُرْجِعُونَ إِلَيْهِنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے

ہی	وہ (ایک عورت)	
إِلَيَّ	تُرْجِعُ إِلَيَّ	وہ ایک عورت میری طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْنَا	تُرْجِعُ إِلَيْنَا	وہ ایک عورت ہماری طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْكَ	تُرْجِعُ إِلَيْكَ	وہ ایک عورت تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْكُمْ	تُرْجِعُ إِلَيْكُمْ	وہ ایک عورت تم دونوں کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْكِ	تُرْجِعُ إِلَيْكِ	وہ ایک عورت تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْكُنَّ	تُرْجِعُ إِلَيْكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْهِ	تُرْجِعُ إِلَيْهِ	وہ ایک عورت اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْهِمَا	تُرْجِعُ إِلَيْهِمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْهِمْ	تُرْجِعُ إِلَيْهِمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْهَا	تُرْجِعُ إِلَيْهَا	وہ ایک عورت اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی
إِلَيْهِنَّ	تُرْجِعُ إِلَيْهِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہے / لوٹے گی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
إِلَيَّ	تَرَجَعَانِ إِلَيَّ	وہ دو عورتیں میری طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْنَا	تَرَجَعَانِ إِلَيْنَا	وہ دو عورتیں ہماری طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكَ	تَرَجَعَانِ إِلَيْكَ	وہ دو عورتیں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُمَا	تَرَجَعَانِ إِلَيْكُمَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُمْ	تَرَجَعَانِ إِلَيْكُمْ	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكِ	تَرَجَعَانِ إِلَيْكِ	وہ دو عورتیں تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُنَّ	تَرَجَعَانِ إِلَيْكُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِ	تَرَجَعَانِ إِلَيْهِ	وہ دو عورتیں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِمَا	تَرَجَعَانِ إِلَيْهِمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِمْ	تَرَجَعَانِ إِلَيْهِمْ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهَا	تَرَجَعَانِ إِلَيْهَا	وہ دو عورتیں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِنَّ	تَرَجَعَانِ إِلَيْهِنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی

هن		وہ (سب عورتیں)
إِلَيَّ	يُرْجِعَنَّ إِلَيَّ	وہ سب عورتیں میری طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْنَا	يُرْجِعَنَّ إِلَيْنَا	وہ سب عورتیں ہماری طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكَ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْكَ	وہ سب عورتیں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُمَا	يُرْجِعَنَّ إِلَيْكُمَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُمْ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْكُمْ	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكِ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْكِ	وہ سب عورتیں تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْكُنَّ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْكُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْهِ	وہ سب عورتیں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِمَا	يُرْجِعَنَّ إِلَيْهِمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِمْ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْهِمْ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهَا	يُرْجِعَنَّ إِلَيْهَا	وہ سب عورتیں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی
إِلَيْهِنَّ	يُرْجِعَنَّ إِلَيْهِنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہیں / لوٹیں گی

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) میری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيَّ	تم دونوں میری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيَّ
تم (ایک مرد) ہماری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْنَا	تم دونوں ہماری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْنَا
تم (ایک مرد) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْهِ	تم دونوں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْهِ
تم (ایک مرد) ان دونوں کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا	تم دونوں ان دونوں کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْهِمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْهِمْ
تم (ایک مرد) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْهَا	تم دونوں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْهَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُ إِلَيْنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعَانِ إِلَيْنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) میری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيَّ	تم (ایک عورت) میری طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيَّ
تم سب (مرد) ہماری طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْنَا	تم (ایک عورت) ہماری طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْنَا
تم سب (مرد) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْهِ	تم (ایک عورت) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْهِ
تم سب (مرد) ان دونوں کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْهِمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْهِمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْهِمْ
تم سب (مرد) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْهَا	تم (ایک عورت) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْهَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہو / لوٹو گے	تَرْجِعُونَ إِلَيْنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	تَرْجِعِينَ إِلَيْنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)	انا	میں
إِيَّ	تم سب (عورتیں) میری طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْكَ	میں تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إَيْنَا	تم سب (عورتیں) ہماری طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْكُمَا	میں تم دونوں کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إِيَّهِ	تم سب (عورتیں) اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ	میں تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إِيَّهِمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْكُمَا	میں تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إِيَّهِمْ	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ	میں تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إِيَّهَا	تم سب (عورتیں) اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْهَا	میں اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
إِيَّهِنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتی ہو / لوٹو گی	أَرْجِعُ إِلَيْهِنَّ	میں ان دونوں کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
		أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ	میں ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
		أَرْجِعُ إِلَيْهَا	میں اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی
		أَرْجِعُ إِلَيْهِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتا / لوٹتی ہوں / لوٹوں گا / گی

نَحْنُ	ہم	
إِيَّاكَ	نَرْجِعُ إِيَّاكَ	ہم تمہاری (ایک مرد) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاكُمَا	نَرْجِعُ إِيَّاكُمَا	ہم تم دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهُمْ	نَرْجِعُ إِيَّاهُمْ	ہم تم سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاكِ	نَرْجِعُ إِيَّاكِ	ہم تمہاری (ایک عورت) طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاكنَّ	نَرْجِعُ إِيَّاكنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهُ	نَرْجِعُ إِيَّاهُ	ہم اس (ایک مرد) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهُمَا	نَرْجِعُ إِيَّاهُمَا	ہم ان دونوں کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهُمْ	نَرْجِعُ إِيَّاهُمْ	ہم ان سب (مردوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهَا	نَرْجِعُ إِيَّاهَا	ہم اس (ایک عورت) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے
إِيَّاهِنَّ	نَرْجِعُ إِيَّاهِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کی طرف لوٹتے ہیں / لوٹیں گے

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I

أَنَا رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ مُتَأَخِّرًا.
میں گھر دیر سے لوٹا۔

I returned home late.

We

نَحْنُ رَجَعْنَا مِنَ السَّفَرِ سَالِمِينَ.
ہم سفر سے صحیح سلامت لوٹے۔

We returned from the trip safely.

You (m)

أَنْتَ رَجَعْتَ إِلَى مَدِينَتِكَ بَعْدَ سَنَوَاتٍ.
تم سالوں بعد اپنے شہر لوٹے۔

You returned to your city after years.

You (f)

أَنْتِ رَجَعْتِ مِنَ الْعَمَلِ مُتَعَبَةً.
تم کام سے تھکی ہوئی لوٹیں۔

You (f) returned from work tired.

He

هُوَ رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ الْغُرْبَةِ.
وہ غربت کے بعد اپنے وطن لوٹا۔

He returned to his homeland after being abroad.

She

هِيَ رَجَعَتْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ الْمَرَضِ.
وہ بیماری کے بعد مدرسے لوٹی۔

She returned to school after the illness.

They two

هُمَا رَجَعَا إِلَى الْمَلْعَبِ لِإِكْمَالِ اللَّعِبِ.
وہ دونوں کھیل مکمل کرنے میدان میں لوٹے۔

The two of them returned to the field to finish the game.

They (m)

هُمْ رَجَعُوا مِنَ الْحَرْبِ مُنْتَصِرِينَ.
وہ جنگ سے فاتح ہو کر لوٹے۔

They returned from the war victorious.

You all (m)

أَنْتُمْ رَجَعْتُمْ مِنَ الرَّحْلَةِ بِذِكْرِيَّاتٍ جَمِيلَةٍ.
تم سب خوبصورت یادوں کے ساتھ سفر سے لوٹے۔

You all returned from the trip with beautiful memories.

They (f)

هُنَّ رَجَعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
وہ مغرب سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹیں۔

They (f) returned to their homes before sunset.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فِي الْمَسَاءِ.
میں شام کو گھر لوٹتا ہوں۔

I return home in the evening.

We

نَحْنُ نَرْجِعُ إِلَى الْعَمَلِ بَعْدَ الْعُطْلَةِ.
ہم چھٹی کے بعد کام پر لوٹتے ہیں۔

We return to work after the holiday.

You (m)

أَنْتَ تَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ.
تم عشاء کی نماز کے لیے مسجد لوٹتے ہو۔

You return to the mosque for Isha prayer.

You (f)

أَنْتِ تَرْجِعِينَ مِنَ الْجَامِعَةِ فِي الثَّلَاثَةِ.
تم تین بجے یونیورسٹی سے لوٹی ہو۔

You (f) return from the university at three.

He

هُوَ يَرْجِعُ إِلَى قَرْيَتِهِ كُلَّ صَيْفٍ.
وہ ہر گرمیوں میں اپنے گاؤں لوٹتا ہے۔

He returns to his village every summer.

She

هِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْكِتَابِ لِمُرَاجَعَتِهِ.
وہ مراجعت کے لیے کتاب کی طرف لوٹی ہے۔

She returns to the book to review it.

They two

هُمَا يَرْجِعَانِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ مَعًا.
وہ دونوں ایک ساتھ مدرسے سے لوٹتے ہیں۔

They both return from school together.

They (m)

هُمْ يَرْجِعُونَ مِنَ الْحُقُولِ عِنْدَ الْغُرُوبِ.
وہ غروب آفتاب کے وقت کھیتوں سے لوٹتے ہیں۔

They return from the fields at sunset.

You all (m)

أَنْتُمْ تَرْجِعُونَ مِنَ التَّدْرِيبِ مُتَعَبِينَ.
تم سب ٹریننگ سے تھکے ہوئے لوٹتے ہو۔

You all return from training tired.

They (f)

هُنَّ يَرْجِعْنَ مِنَ السُّوقِ بِالْمُشْتَرِيَّاتِ.
وہ خریداری لے کر بازار سے لوٹی ہیں۔

They (f) return from the market with purchases.

VOCABULARY

المفردات

<p>الْبَيْتُ بَيْتٌ</p> <p>house / home</p>	<p>الْوَطَنُ وَطَنٌ</p> <p>homeland</p>	<p>الْغُرْبَةُ يُغْرِبُ / غُرْبَةٌ</p> <p>being abroad / exile</p>
<p>السَّفَرُ سَفَرٌ</p> <p>trip / travel</p>	<p>الْحَرْبُ جُنُودٌ</p> <p>war</p>	<p>الْمَرَضُ بِئْسَ مَرَضٌ</p> <p>illness</p>
<p>الْقَرْيَةُ كَرْيَةٌ</p> <p>village</p>	<p>الْحَقُولُ كُهَيْتٌ</p> <p>fields</p>	<p>الْمَشْتَرِيَّاتُ خَرِيدَاتٌ</p> <p>purchases</p>
<p>الْعِطْلَةُ جِئْتِي</p> <p>holiday / vacation</p>	<p>الْمَرَاجِعَةُ مَرَجَعْتُ / دَهْرَانِي</p> <p>review</p>	<p>الْمَغْرِبُ مَغْرَبٌ / غُرُوبٌ</p> <p>sunset / Maghrib time</p>
<p>الذِّكْرِيَّاتُ يَادِي</p> <p>memories</p>	<p>التَّدْرِيبُ تُرِينُكَ</p> <p>training</p>	<p>الصَّيْفُ گرمیاں</p> <p>summer</p>